



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الروم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الم

الف لام میم۔

.1

عُلِّيتِ الرُّومُ

دب (مغلوب ہو) گئے ہیں روم (رومی)۔

.2

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ

لگتے (عرب کے نزدیک) ملک میں،

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

اور وہ اس ڈبے پیچھے (مغلوب ہونے کے بعد) اب غالب ہوں گے۔

.3

فِي بَضْعِ سِنِينَ

کئی برس میں۔

.4

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ^ج

اللہ کے ہاتھ ہیں کام (اختیار) پہلے اور پچھلے۔

وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ

اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔

بِنَصْرِ اللَّهِ^ج

اللہ کی مدد سے۔

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ^ط

مدد کرے جس کی چاہے۔ اور وہی ہے زبردست رحم والا۔

وَعَدَ اللَّهُ^ط

اللہ کا وعدہ ہوا۔

لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

يَعْلَمُونَ ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کا جینا۔ اور وہ لوگ آخرت سے خبر نہیں رکھتے۔

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ^ط

کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں؟

مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى^ط

اللہ نے جو بنائے آسمان وزمین اور جو ان کے بیچ ہے، سو ٹھیک سادہ کر اور ٹھہرے وعدہ پر۔

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ

اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ^ج

کیا پھرے نہیں ملک میں جو دیکھیں آخر کیسا ہوا ان سے اگلوں کا؟

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

ان سے زیادہ تھے زور میں،

وَأَنظُرُوا إِلَى الْأَرْضِ وَعَمَّروَهَا أَكْثَرًا مِّمَّا عَمَّرُوهَا

اور زمین اٹھائی اور بسائی (کھیتی باڑی کی)، ان کے بسانے سے زیادہ،

وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّهِمْ^ط بِالْبَيِّنَاتِ

اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلے (واضح) حکم۔

فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

اور اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا، لیکن وہ اپنا آپ بُرا کرتے تھے۔

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَؤُا السُّوَاىِٕ

پھر ہوا آخر بُرا کرنے والوں کا بُرا،

أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ

اس پر کہ جھٹلائیں باتیں اللہ کی، اور اُن پر ٹھٹھے (مذاق) کرتے تھے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

اللہ بناتا (پیدا کرتا) ہے پہلی بار، پھر اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف پھر (لوٹائے) جاوے گا۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ

اور جس دن اُٹھے (برپا ہو) گی قیامت آس ٹوٹے رہ جائیں گے گنہگار۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شَرِّكَائِهِمْ شُفَعَاءُ أَوْ كَانُوا بِشِرْكَائِهِمْ كَافِرِينَ

اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں کوئی انکی سفارش والے، اور یہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِدُ يُتَفَرَّقُونَ

اور جس دن اُٹھے (برپا ہو) گی قیامت، اس دن بھانت بھانت (فرقوں میں بٹے) ہوں گے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

سو جو یقین لائے، اور کئے بھلے کام، سوباغ میں ہیں، اُن کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا بچھلے گھر (آخرت) کا،

سوشاب میں پکڑے آئے ہیں (ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے)۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

سو پاک اللہ کی ذات ہے، جب شام کرو اور صبح کرو۔

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

اور اسی کی خوبی ہے آسمان وزمین میں، اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو۔

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا^ج

نکالتا ہے جیتا مُردے سے، اور نکالتا ہے مُردہ جیتے سے، اور جلاتا (زندہ کرتا) ہے زمین کو اُس کے مرے پیچھے۔

وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ

اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب تم انسان ہو پھیل پڑے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ بنا دیئے تم کو تمہاری قسم سے جوڑے، کہ چین پکڑوا سکے پاس،

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^ج

اور رکھا تمہارے بیچ پیار اور مہر (رحمت)،

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

اس میں بہت پتے (نشانیوں) ہیں اُن کو جو دھیان کرتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ اللَّاتِيَّاتِ حَمْلَهُنَّ

اور اسکی نشانیوں سے ہے آسمان زمین کا بنانا اور بھانت بھانت بولیاں (مختلف زبانیں) تمہاری، اور رنگ۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

اس میں بہت پتے (نشانیوں) ہیں جو جھنے والوں (عالموں) کو۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ

اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سونارت میں اور دن میں تلاش کرنی اسکے فضل سے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

اس میں بہت پتے (نشانیوں) ہیں ان کو، جو سنتے ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، ڈر اور امید،

وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر جلاتا (زندہ کرتا) ہے اس سے زمین کو مر گئے پیچھے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اس میں بہت پتے (نشانیوں) ہیں ان کو، جو بوجھتے (عقل سے کام لیتے) ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

اور اُس کی نشانیوں سے یہ کہ کھڑا (قائم) ہے آسمان و زمین اسکے حکم سے۔

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذْ أَأْنْتُمْ تَخْرُجُونَ

پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار، زمین میں سے، تبھی تم نکل پڑو گے۔

وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اسی کے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں۔

كُلٌّ لَّهُ قَنُوتُونَ

سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا (تخلیق کرتا) ہے اور پھر اس کو دہرائے گا، اور وہ آسان ہے اس پر۔

وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اسکی کہاوت (مثال) سب سے اُوپر (بلند)، آسمان و زمین میں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا۔

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ

بتائی تم کو ایک کہاوت، تمہارے اندر سے۔

هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِ قِتَابِكُمْ

تمہارے جو ہاتھ کے مال (غلام) ہیں، اُن میں ہیں کوئی سا جھی (شریک) تمہارے ہماری دی روزی میں،

فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُوهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ^ج

کہ تم سب اس میں برابر رہو، خطرہ (ڈر) رکھو ان کا جیسے خطرہ (ڈر) رکھو اپنوں کا۔

كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

یوں کھولتے (واضح کرتے) ہیں ہم پتے (آیات) ان لوگوں کو جو بوجھتے (عقل رکھتے) ہیں۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ^ط

بلکہ چلے ہیں یہ بے انصاف اپنے چاؤ (خواہش) پر، بن سمجھے۔

فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ^ط

سو کون بھجائے جس کو اللہ نے بہکایا؟

وَمَا لَهُمْ مِّنْ لَّصِيرِينَ

اور کوئی نہیں ان کے مددگار۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا^ج

سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف (یکسو) ہو کر۔

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا^ج

وہی تراش اللہ کی، جس پر تراشا لوگوں کو۔

لَا تَبْدِيلَ لِمَآ خَلَقَ اللَّهُ^ج

بدلنا نہیں اللہ کے بنائے کو۔

.29

.30

ذَلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

یہی ہے دین سیدھا، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

سب رجوع ہو کر اسکی طرف اور اس سے ڈرتے رہو، اور کھڑی رکھو نماز، اور مت ہو شریک والوں میں۔

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا

جنہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہوئے ان میں بہت جتھے۔

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

ہر فرقہ جو اپنے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

اور جب لگے لوگوں کو کچھ سختی، پکاریں اپنے رب کو اسکی طرف رجوع ہو کر،

ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے کچھ مہر (رحمت)، تبھی ایک لوگ ان میں اپنے رب کا شریک لگے بتانے۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیئے سے۔

فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

سو کام چلا لو اب۔ آگے جان لو گے۔

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهٗو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ

کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند سو وہ بولتی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔

وَإِذْ آذَيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا

اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہر (رحمت)، اس پر ریجھنے لگیں۔

وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذْ هُمْ يَقْنُطُونَ

اور اگر آپڑے ان پر کوئی برائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے پر، تبھی آس توڑ دیں۔

أُولٰٓئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس پر چاہے اور ماپ کر دیتا ہے (جسکے لئے چاہے)۔

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اس میں پتے (نشانیوں) ہیں ان لوگوں کو جو یقین (ایمان) رکھتے ہیں۔

فَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

سو تو دے ناتے والے (رشتے دار) کو اس کا حق، اور محتاج کو، اور مسافر کو،

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُوْتِيْلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

یہ بہتر ہے ان کو جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ۔ اور وہی جن کا بھلا ہے (فلاح پانے والے)۔

وَمَا آتٰتِيْمٌ مِّن رَّبِّا لِّيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ

اور جو دیتے ہیں بیاج (سود) پر، کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر منہ اللہ کا، سو وہی ہیں جن کے ڈونے ہوئے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ^ط

اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تم کو جلاوے (زندہ کرے) گا۔

هَلْ مِن شَرٍّ كَأَنَّكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُمْ مِّن شَيْءٍ^ج

کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں ایک۔

سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

وہ نہ والا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے جو شریک بتاتے ہیں۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ

کھل پڑی ہے خرابی (فساد) جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے،

لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا اَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

چکھایا چاہے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا کہ شاید یہ پھر (باز) آئیں۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ^ج

تو کہہ، پھر ملک میں، تو دیکھو آخر کیسا ہوا پہلوں کا؟

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ

بہت ان میں تھے شریک والے۔

.40

.41

.42

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ^ط

سوٹو سیدھا کر اپنا منہ سیدھی راہ پر اس سے پہلے کہ آپہنچے ایک دن، جس کو پھرنا (ٹلنا) نہیں اللہ کی طرف سے،

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ^ط

جو منکر ہو اسو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا۔

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

اور جو کرے بھلے کام، سو اپنی راہ سنوارتے ہیں۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ^ج

کہ وہ بدلہ دے ان کو، جو یقین لائے اور بھلے کام کئے، اپنے فضل سے،

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

بیشک اس کو نہیں بھاتے انکار والے۔

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ءَأَن يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ

اور اسکی نشانیوں میں ایک یہ کہ چلاتا ہے باویں (ہوائیں) خوشخبری لانے والی،

وَلِيَذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ءَوَلِيَتَجَرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ

اور تا (کہ) چکھائے تم کو کچھ مزہ اپنی مہر (رحمت) کا، اور تا (کہ) چلیں جہاز اس کے حکم سے۔

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور تلاش کرو اس کے فضل سے، اور شاید تم حق مانو۔

.47

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم پاس، پھر آئے ان پاس پتے (نشانیوں) لے کر،

فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَهُمْ ۗ

پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو گنہگار تھے۔

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

.48

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

اللہ ہے جو چلاتا ہے باویں (ہوائیں)، پھر ابھارتیاں ہیں بدلی،

فَيُبْسِطُهَا فِي السَّمَاءِ ۗ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا

پھر پھیلاتا ہے اس کو آسمان میں، جس طرح چاہے، اور رکھتا ہے اس کو تہہ برتہ،

فَتَنْزِي الْأَوْدُقِ يُخْرِجُ مِنْ خَلِيلِهِ ۗ

پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے پیچ سے۔

فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

پھر جب اُس کو پہنچایا جس کو چاہے اپنے بندوں میں، تبھی وہ لگے خوشیاں کرنے۔

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ

اور پہلے ہو رہے تھے اس کے اترنے (برسنے) سے پہلے ہی ناامید۔

فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَمْوَاضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

سو دیکھ، اللہ کی مہر (رحمت) کے نشان، کیونکر جلاتا (زندہ کرتا) ہے زمین کو، اس کے مرے پیچھے۔

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُعْجِزٌ أَلْمُوتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک وہ ہے مُردے جلانے (زندہ کرنے) والا۔ اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

وَلَيْنَ أَمْرًا سَلْنَا رِجًّا فَاذْوَاهُ مُصَفَّرًا الظُّلُومُ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ

اور اگر ہم بھیجیں ایک باؤ (ہوا)، پھر دیکھیں وہ کھیتی زرد پڑ گئی، تو لگیں اس پیچھے ناشکری کرنے۔

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ أَلْمُوتِ وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وُلُّوا مُدْبِرِينَ

سو تو سنا نہیں سکتا مُردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو، پکارنا، جب پھریں پیٹھ دے کر۔

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ

اور نہ تو راہ سجھائے اندھوں کو، ان کے بھٹکنے سے۔

إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

تو تو سنائے اس کو جو یقین مانے ہماری باتیں، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

اللہ ہے جس نے بنایا (پیدا کیا) تم کو کمزوری سے (ناتواں)، پھر دیا کمزوری پیچھے زور (قوت)،

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً^ج

پھر دے گا زور پیچھے (قوت کے بعد) کمزوری، اور سفید بال۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ^ط

بناتا (پیدا کرتا) ہے جو چاہے، اور وہ ہے سب جانتا کر سکتا۔

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ^ج

.55

اور جس دن اُٹھے (برپا ہو) گی قیامت، قسمیں کھائیں گے گنہگار، کہ ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ،

كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

اسی طرح تھے اُلٹے جاتے (دنیا میں دھوکا کھاتے)۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ^ط

.56

اور کہیں گے جنکو ملی سمجھ اور یقین (ایمان)، تمہارا ٹھہراؤ تھا اللہ کے لکھے میں، جی اُٹھنے کے دن (روزِ حشر) تک،

فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكُمْ كُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

سو یہ ہے جی اُٹھنے کا دن، پر تم نہ تھے جانتے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْعَادُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

.57

سو اس دن کام نہ آئے گی ان گنہگاروں کو تقصیر بخشوانی، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ^ج

.58

اور ہم نے بٹھائی (بیان کی) ہے آدمیوں کو، اس قرآن میں ہر طرح کی کہاوت۔

وَلَيْنِ جُنَّتْهُمْ بَيَّاتَةٌ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ

اور جو تولائے ان پاس کوئی آیت تو مقرر کہیں وہ منکر، تم جھوٹ بناتے ہو۔

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

یوں مہر کرتا ہے اللہ اُن کے دلوں پر، جو سمجھ نہیں رکھتے۔

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

سو تو ٹھیرا رہ (صبر کر)، بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک (حق) ہے،

وَلَا يَسْتَحْفِظُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

اور اُچھال نہ دیں (نہ ہلکائیں) تجھ کو جو یقین نہیں لاتے۔

.59

.60

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com